

یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، ارون  
زیر تجربہ مریض کے حقوق کا مسودہ قانون

ذیل میں مذکور حقوق ایک تحقیقی مطالعہ میں شرکت کے لئے پوچھے جانے والے ہر فرد کا حق ہے۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ :

1. مطالعہ کی نوعیت اور مقصد کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔
2. تحقیقی مطالعہ میں جن طریق کار پر عمل کیا جانا ہے ان کے بارے میں بتایا جائے، اور آیا کوئی دوا، آلہ، یا طریق کار اس چیز سے مختلف ہے جو معیاری طرز عمل میں استعمال ہوگا۔
3. مطالعہ کے دوران آپ کو معقول حد تک جن ضمنی اثرات، تکالیف، یا خطرات کی توقع ہوسکتی ہے ان کی ایک وضاحت موصول ہو جائے۔
4. مطالعہ میں شرکت کی وجہ سے آپ معقول حد تک جن فوائد کی توقع کرسکتے ہوں ان کے بارے میں بتایا جائے، اگر قابل اطلاق ہو۔
5. مفید ثابت ہوسکنے والے کسی متبادل طریق کار، دوا، یا آلہ اور مجوزہ طریق کار، ادویات یا آلات کے مقابلے ان کے خطرات اور فوائد کی ایک وضاحت موصول ہو جائے۔
6. اگر کوئی پیچیدگی درپیش ہوتی ہے تو جس قسم کا متبادل معالجہ دستیاب ہوگا، اگر کوئی ہو تو، اس کے بارے میں بتایا جائے۔
7. مطالعہ میں شرکت پر اتفاق رائے کرنے سے پہلے بھی اور اس کی انجام دہی کے دوران کسی بھی وقت تحقیقی مطالعہ کے سلسلے میں کوئی سوالات پوچھنے کا موقع دیا جائے۔
8. تحقیقی مطالعہ میں شرکت کرنے سے انکار کردیں۔ شرکت رضاکارانہ ہے۔ آپ کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کرسکتے ہیں یا کسی بھی وقت بغیر کسی ہرجانے کے اور ان فوائد سے محروم ہوئے بغیر بصورت دیگر آپ جن کے مستحق ہوسکتے ہیں اپنی شمولیت روک سکتے ہیں۔ آپ کے فیصلے سے ایسی نگہداشت حاصل کرنے کا آپ کا حق متاثر نہیں ہوگا جو اس تجربے میں آپ کے شامل نہ ہونے پر آپ کو موصول ہوتا۔
9. دستخط اور تاریخ درج کردہ تحریری رضامندی فارم کی ایک کاپی اور اس فارم کی ایک کاپی حاصل موصول ہو۔
10. آزادانہ طور پر، کسی زور زبردستی، مجبوری یا بیجا دباؤ کے بغیر یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے کہ آیا تحقیقی مطالعہ کے لئے منظوری دینا ہے یا نہیں۔

اگر تحقیقی مطالعہ کے سلسلے میں آپ کو کوئی سوال درپیش یا تشویش لاحق ہے تو آپ کو منظوری فارم کے اوپر مذکور تحقیقی ٹیم سے رابطہ کرنا چاہیے۔

اگر آپ تحقیقی ٹیم کے کسی ممبر کے پاس پہنچنے سے قاصر ہیں اور آپ کے عمومی سوالات ہیں، یا تحقیقی مطالعہ، تحقیقی ٹیم، کے بارے میں آپ کی تشویشات یا شکایات ہیں، یا تحقیقی مریض کی حیثیت سے اپنے حقوق کے بارے میں سوالات درپیش ہیں تو، براہ کرم دفتر برائے تحقیق میں UCI's Human Research Protections Program (یو سی اے کے ہیومن ریسرچ پروٹیکشنز پروگرام) سے 824-6068 (949) یا 824-2125 (949) پر بروز پیر تا جمعہ، صبح 8 بجے تا شام 5 بجے کال کر کے؛ یا [IRB@research.uci.edu](mailto:IRB@research.uci.edu) پر بذریعہ ای میل، یا 160 Aldrich Hall, Irvine, CA 92697 (5171 کیلیفورنیا، سوٹ ۱۵۰، ارون، سی اے 92697-7600) کے پتے پر ہمیں خط لکھ کر رابطہ کریں۔